

## مئی ۲۰۲۲ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی مشورے

ماہ اپریل میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں گندم کی کٹائی/گہائی مکمل ہو چکی ہے۔ بیشتر علاقوں میں کیاس کی کاشت مکمل ہو چکی ہے۔ تاہم کچھ بالائی علاقوں میں بارشوں، ژالہ باری اور جھکڑ چلنے سے گندم کی کٹائی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ موسمی سبزیوں اور پھل دار درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

مئی کے مہینے میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بیشتر زرعی میدانوں میں وقتاً فوقتاً تیز آندھی/جھکڑ جبکہ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر یلکی بارش/ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ اس لئے موسم کی اس غیر یقینی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بالائی علاقوں کے کسان گندم کی گہائی جلد سے جلد مکمل کر لیں۔ کاشتکار حضرات اپنی سہولت کیلئے مندرجہ ذیل زرعی موسمیاتی مشورے ملحوظ خاطر رکھیں۔

۱۔ مئی کے موسمی حالات نہایت غیر یقینی ہوتے ہیں لہذا فصلوں کی کٹائی اور گہائی کا عمل موسمی پیشگوئی کے عین مطابق کریں۔ متوقع بارش کی صورت میں فصل کو نہ کاٹیں اور گہائی کا عمل بھی روک دیں اور اکتھی کی ہوئی گندم کو اگر ممکن ہو تو پلاسٹک سے ڈھانپ لیں کیونکہ بارش سے اناج اور بھوسہ کا معیار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔

۲۔ گندم کی فصل سے فارغ ہونے والے کھیت کو ہل چلا کر کھلا نہ چھوڑیں بلکہ سہاگہ چلا کر لیول کر دیں تاکہ مئی کے مہینے میں بڑھتی ہوئی شرح تبخیر زمین سے زیادہ پانی کے ضیاع کا سبب نہ بنے۔ خاص کر خودرو جڑی بوٹیوں کو زمین میں دبا دیں یا اکٹھا کر کے آگ لگا دیں۔ اگر بارش ہوگی تو زمین زیادہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی ورنہ پانی جذب ہونے کی بجائے بہہ کر دوسرے کھیتوں میں چلا جائے گا۔ بارانی علاقوں کے کسانوں کیلئے یہ طریقہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔

۳۔ متوقع بارش ہونے کی صورت میں بارانی علاقوں کے کسان خریف کی فصل بالخصوص مونگ پھلی فوری طور پر کاشت کر دیں تاکہ دستیاب وتر سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

۴۔ وسطی و زیریں پنجاب اور سندھ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر نہری علاقوں کے کسان کھڑی فصلوں کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے آبپاشی کا بندوبست کر لیں۔

اپنی تمام تر کھیتی باڑی موسمی پیشگوئیوں کے مطابق کریں۔ موسمی پیشگوئیوں کے سلسلے میں اخبار، ریڈیو، ٹیلیویژن سے مربوط رہیں اور اگر کوئی زرعی موسمیاتی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے مندرجہ ذیل دفاتر آپ کی بخوبی مدد کر سکتے ہیں۔

نیشنل ایگرومیٹ سنٹر، محکمہ موسمیات، پی۔او۔بکس نمبر 1214، سیکٹر ایچ ایٹ ٹو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 9250299-051\*

\*۔ نیشنل فور کا سٹنگ سنٹر، محکمہ موسمیات، پی۔او۔بکس، 1214، سیکٹر ایچ ایٹ ٹو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 051-9250364

ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، محکمہ موسمیات، نزد بارانی زرعی یونیورسٹی، مری روڈ، راولپنڈی۔ فون نمبر: 051-9292149\*

\*۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، محکمہ موسمیات، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ فون نمبر: 041-9201803

\*۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، محکمہ موسمیات، ایگر یکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ٹنڈو جام۔ فون نمبر: 022-9250558

ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، محکمہ موسمیات، ایگر یکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سریاب روڈ، کوئٹہ۔ فون نمبر: 081-9211211\*

تفصیلی موسمی معلومات کیلئے محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ [www.pmd.gov.pk](http://www.pmd.gov.pk) ملاحظہ فرمائیں۔